

“Yes, there must be milk anyhow.”

“Yes, there was milk”, he supposed.

Q.7. Translate the following into English by keeping in view any figurative /idiomatic expression.

(10)

کچھ کتابوں کے بارے میں اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کو بدل ڈالا ان کتابوں کا انتخاب اہل دانش اپنی مرضی اور حالات کے مطابق کرتے ہیں لیکن جہاں کتابیں دنیا کو بدلتی ہیں وہیں کچھ کتابیں ایسی بھی ہیں جو دنیا کو گمراہ کر کے اُس کی پسماندگی کی ڈسردار ہوتی ہیں۔ کسی بھی سوسائٹی میں کتابوں کی اشاعت سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کیا شائع ہونے والی کتابیں دنیا کو بدلنے والی ہیں یا اسے فرسودہ روایات میں جکڑ کر رکھنا چاہتی ہیں اس نکتہ نظر سے ہم پاکستان میں شائع ہونے والی کتابوں کا جائزہ لیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ کتابیں اسی تہذیب، فرقہ وارانہ جذبات اور بے جا قومی فخر کے جذبات سے لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کر رہی ہیں۔ اس ذہنیت کا اظہار آج کے پاکستانی معاشرے میں نظر آتا ہے۔

Best of Luck for CSS-2024 & Special CSS

Frequently, it is ~~reminded~~ ^{Use another word} about some books that these books ~~changes~~ ^{grammar} the identity of the world. Selection of such books is done by the consent of great scholars according to the circumstances. But, some books ^{use singular} ~~changes~~ the world positively, while others are responsible for the negative outcomes in the world. It can be estimated from publications of books in any society whether they will ~~profit~~ ^{You did well} the world or will ~~confine~~ ^{However, try adding more expressions for good marks} the world in useless tradition and customs. ~~From this point of view,~~ ^{Separate these} review books published in Pakistan, we will find that these books impacts minds of people through tools of religious sectarianism, emotions, and useless nationalism. This can be seen in today's Pakistani society.

